



ہر احمدی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہئے کہ اخلاق صرف اسے تقویٰ میں بڑھانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ایک دینی فریضہ ہے اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہیں۔

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 09 جون 2017ء کا خلاصہ

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا رمضان کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لئے مختلف جگہوں پر اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت راسخ ہو جائے اور ہمارے ہر عمل اور خلق سے اس کا اظہار ہونے لگے کیونکہ اگر تقویٰ نہیں تو کسی بھی قسم کی نیکی نہیں ہو سکتی۔ عارضی اور وقتی نیکیاں ہر انسان کسی وقتی جوش اور وجہ سے کر لیتا ہے لیکن اس میں باقاعدگی تبھی آتی ہے جب حقیقی تقویٰ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں، عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ فرمایا: اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد، نہ لے۔ فرمایا خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے۔ جیسے کان، ناک یہاں تک کہ بال وغیرہ بھی خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوی جو انسان میں ماہ الامتیاز ہیں وہ سب خلق میں داخل ہیں یہاں تک کہ عقل، فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔ اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے اس لئے ضروری ہے کہ رسول ﷺ کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول ﷺ کے اسوہ کی تم بھی حتی الوسع اپنی طاقت اور اپنی استعدادوں کے مطابق پیروی کرو۔ اس کے لیے کوشش اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی خدا تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو وہ تبدیلی اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب مجاہدہ اور دعا سے کام لے ورنہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق جتنے بھی گرے ہوئے ہوں اگر اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ہلاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جن حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن نہیں وہ غلطی پر ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آجکل اس سستی کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا فرمائے ہیں۔ اس میں اخلاق کی بہتری کی طرف بھی ہر ایک کو توجہ دینی چاہئے اور کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے۔ اگر توجہ نہ کی اس ماحول کے باوجود تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بڑھاپے کی حالت میں چلا جائے گا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بغیر تقویٰ کے انسان حاضر ہوتا ہے۔ پھر حصول اخلاق کے لئے توبہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ دراصل حصول اخلاق کے لئے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ ﷺ کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز اخلاق کا ہی دیا گیا ہے۔ جیسے فرمایا۔ **انک لعلی خلق عظیم**۔ یوں تو آنحضرت ﷺ ہر قسم کے خوارق، قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر عادات ذمیرہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اس کے لئے وہی کرامت ہے۔ مثلاً اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ وران عادت بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے تو بے شک یہ کرامت ہے۔ یا عفو کو اختیار کرتا ہے یا مساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے تو بیشک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی کرامت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے۔ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایک ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشمار لوگ آج کل بھی جو احمدیت میں داخل ہوتے ہیں کسی نہ کسی احمدی کے اخلاق سے متاثر ہو کر احمدی ہو رہے ہوتے ہیں۔ پس ہر احمدی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہئے کہ اخلاق صرف اسے تقویٰ میں بڑھانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ایک دینی فریضہ ہے اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس لئے ہر احمدی کو اپنے اخلاق پر نظر رکھنی چاہئے۔ اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت، مروّت، عفت جس قدر تو تین انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں ان کا بر محل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اعلیٰ اخلاق کے ہر وقت اظہار کی توفیق عطا فرمائے اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ آمین

نوٹ: تمام احباب کرام سے درخواست ہے کہ ماہ رمضان میں آنحضرت ﷺ کی سنت کے مطابق کثرت سے صدقہ خیرات کریں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جماعت کا مالی سال بھی ماہ جون میں اختتام پذیر ہوتا ہے لہذا تمام افراد اپنے لازمی چندہ جات کی ادائیگی بھی سو فیصد کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کے مال و نفوس میں بے پناہ برکت ڈالے اور ہماری اولادوں کو بھی مالی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین



Also jeder Ahmadi sollte auf seinen Zustand schauen, denn Moral ist nicht nur notwendig um taqwa zu erlangen, sondern auch eine Glaubenspflicht, die andere reformiert.

von Hadhrat Khalifatul Massih V. (Möge Allah sein Helfer sein)
vom 09. Juni 2017 in Bait-ul-Futuh London

Hadhrat Khalifatul Massih Al-Khamis^{atba} sagte, dass Allah als Sinn des Ramadhan die Erlangung von taqwa (Gottesfurcht) genannt hat. Hadhrat Massih-e-Maud^{as} hat an verschiedenen Stellen das Thema ausführlich erklärt, damit wir die Bedeutung in unseren Herzen verinnerlichen und dementsprechend handeln. Solange kein taqwa vorhanden ist, können keine frommen Taten vollbracht werden. Jeder Mensch kann aufgrund kurzfristigen Eifers fromme Taten vollbringen, doch kontinuierliche Handlungen sind nur mit wahren taqwa möglich. Hadhrat Massih-e-Maud^{as} nannte verschiedene Aspekte von taqwa. So gehören das Fernhalten von Eitelkeit, Egoismus, Einsatz von unrechtmäßigem Vermögen und Unmoral dazu. Derjenige der sich moralisch gut verhält, dessen Feinde werden sogar zu seinen Freunden. Mit moralisch handeln ist nicht nur der milde Umgang gemeint. Khalq und Khulq sind zwei Wörter, die zwei unterschiedliche Dinge bezeichnen. Khalq beschreibt die physische Geburt. Dazu gehören beispielsweise die Ohren, Nase oder auch die Haare usw. Khulq dagegen bezeichnet die metaphysische Geburt. Auch die inneren Kräfte, die in einem Menschen vorhanden sind wie zum Beispiel der Verstand, Gedanken usw. gehören alle zu khulq. Moral bedeutet die Erlangung vom Wohlgefallen Gottes. Dafür ist es notwendig, dass wir dem Vorbild des Heiligen Propheten Mohammad^{saw} folgen. Allah sagt, dass wir dem Vorbild dieses Propheten^{saw} mit allen unseren Kräften und Fähigkeiten folgen sollten. Dafür müssen wir uns bemühen und anstrengen. Schließlich sagt Allah, dass er jegliche Art von Drangsal und Unglück, die auf jeden Schritt folgen nicht beseitigt, solange das Volk nicht selber versucht sie zu beseitigen. Also wir können nur dann unseren moralischen Zustand bessern, wenn wir neben unseren Bemühungen auch dafür beten, andernfalls ist es nicht möglich. Hadhrat Massih-e-Maud^{as} sagte, dass auch wenn jemand auf den niedrigsten Stufen der Moral ist, wenn derjenige sich bessern möchte, so ist es für ihn möglich. Dafür ist Anstrengung erforderlich. Es klappt nicht, wenn man nachlässig und träge ist. Die Philosophen, die glauben, dass man sich nicht bessern kann, irren sich. In den aktuellen Tagen hat Allah Mittel geschaffen, um diese Trägheit zu beseitigen. Jeder sollte versuchen sich moralisch zu bessern, die Schwächen zu beseitigen und sich vor Sünden zu schützen. Wenn wir trotz dieser Atmosphäre nicht unsere Aufmerksamkeit auf diese Punkte lenken, dann werden wir wie Hadhrat Massih-e-Maud^{as} es beschrieben hat, den Zustand eines alternden Menschen einnehmen und das bedeutet das Ende für das Leben. Dann tritt man vor Allah ohne taqwa zu besitzen. Dann hat er^{as} unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass Reue ein sehr nützliches Mittel ist, um sich moralisch zu bessern und um vollkommen zu werden. Derjenige, der sich moralisch entwickeln möchte, muss mit reinem Herzen und mit fester Absicht Reue zeigen.

Hadhrat Massih-e-Maud^{as} sagte, dass der moralische Zustand ein solches Wunder ist, dass niemand mit dem Finger darauf zeigen kann. Das ist auch der Grund, warum unserem Heiligen Propheten^{saw} dies als größtes und mächtigstes Wunder gegeben wurde, so wie es heißt, dass er^{saw} gewisse exzellente Moral besitzt. Der Heilige Prophet Mohammad^{saw} hat zwar auch so schon größere Wunder als die vergangenen Propheten gezeigt, doch seine moralische Stärke ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Hadhrat Massih-e-Maud^{as} sagte: Ich denke, dass für jede Person, die ihre schlechten Angewohnheiten und ihre Unmoral beseitigend hohe moralische Vorzüglichkeit entwickelt, die von schlechten Taten abhält und zu frommen Taten führt, es ein Wunder darstellt. Zum Beispiel wenn eine hartherzige Person, die schnell

zornig wird von dieser schlechten Tat ablässt und stattdessen Sanftmut und Gnade entwickelt oder jemand der geizig und eifersüchtig ist, stattdessen Mitgefühl in sich entwickelt, dann gleicht das einem Wunder. Ebenso wenn sich jemand von Eitelkeit und Egoismus befreit und dafür Demut annimmt, dann ist dies ein Wunder. Nun wer möchte nicht von euch ein Wunder zeigen? Ich weiß, dass jeder Wunder zeigen möchte. Der Mensch sollte seinen moralischen Zustand bessern, denn das ist ein Wunder, dessen Wirkung niemals verloren geht sondern vielmehr große Auswirkung hat. Hadhur^{atba} sagte, dass auch heute zahlreiche Menschen in Ahmadiyyat eintreten, weil sie von den moralischen Eigenschaften eines Ahmadi beeindruckt wurden. Also jeder Ahmadi sollte auf seinen Zustand schauen, denn Moral ist nicht nur notwendig um taqwa zu erlangen, sondern auch eine Glaubenspflicht, die andere reformiert. Moral bedeutet nicht nur Sanftmut zu zeigen, sondern alle Eigenschaften wie Tapferkeit, Großzügigkeit oder Keuschheit, die dem Menschen gegeben wurden, sind moralische Qualitäten, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Möge Allah uns befähigen, den Weg von taqwa gehend unsere moralischen Qualitäten zu verbessern, uns zu reinigen und dem Vorbild des Heiligen Propheten Mohammad^{saw} zu folgen und damit den Erwartungen von Hadhrat Massih-e-Maud^{as} gerecht zu werden. Amin.

Bekanntmachung:

Im Monat Ramadhan sollten sie gemäß der Sunna des Heiligen Propheten Mohammad^{saw} vermehrt Sadqa zahlen. Im Monat Juni endet das finanzielle Jahr der Jamaat. Alle Chandazahler werden gebeten, ihre Pflichtbeiträge vollständig zu entrichten. Möge Allah ihr Eigentum und Vermögen segnen und unseren Nachkommen ermöglichen höchste Stufen der finanziellen Opferbereitschaft zu erklimmen. Amin.



Meine lieben Brüder und Schwester,

Assalamo alaikum warahmatullah wabarakatuhu.

Möge Allah Ihnen allen äußerst gnädig sein und Sie besonders im
Ramadhan segnen. Ameen.

Wir Sie sicherlich wissen ist unser Finanzjahr am 30 Juni 17 zu Ende.
Diesbezüglich will ich Sie besonders an Ihre 100 Moschee Versprechen
erinnern.

Ich bitte demütigst alle Khuddam, Ansar und Lajnat Ihre Versprechen
bis zum 30. Juni 17 einzulösen. Jazakallah. Ebenso bitte ich demütigst
all diejenigen, die Ihre Versprechen bereits erfüllt haben, darüber
hinaus für das 100-Moschee-Projekt grosszügig zu spenden.

Möge Allah Sie stetsbeschützen und Sie für Ihre besonderen
Bemühungen unermesslich belohnen. Ameen.

Wasalam

Khaaksar

Abdullah Wagishauser
(National Amir Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland)



میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آمین

جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مالی سال 30 جون 2017 کو ختم ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں میں آپ کو خصوصی طور پر آپ کے 100 مساجد کے وعدہ جات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

میری تمام خدام، انصار اور لجنات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ براہ مہربانی 30 جون تک اپنے وعدہ جات کو مکمل طور پر ادا کر دیں۔ جزاکم اللہ

تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے وعدہ جات ادا کر دیئے ہیں ان سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ 100 مساجد میں ذائد چندہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔

اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

والسلام
خاکسار

عبداللہ واگس ہاوزر

امیر جماعت احمدیہ جرمنی